



2022 برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کا عمل 19 اگست کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔

برامپٹن، آن (2 اگست 2022) – سٹی آف برامپٹن کا کلرک آفس نے 2022 کے لیے برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں اور فریق ثالث کے مشنہرین کے اندراجات کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ امیدواروں کی نامزدگی کی مدت بروز جمعہ، 19 اگست 2022 کو دوپہر 2 بجے سے ختم ہو جائے گی۔

تیسرے فریق کے مشنہرین کے لیے رجسٹریشن کی مدت بروز جمعہ 21 اکتوبر 2022 تک جاری رہے گی۔

امیدواروں اور تیسرے فریق کے مشنہرین کے لیے عمومی ہدایات کے بارے میں ایک پریزیٹیشن سٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

امیدواران

سٹی درج ذیل عہدوں میں نامزدگیاں قبول کر رہا ہے:

- میئر
- ریجنل کونسلر
- سٹی کونسلر
- اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے:
 - پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - ٹفرن پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - کونسیل سکولیرے کیتھولک مون ایونر (Conseil scolaire catholique MonAvenir)

سٹی آف مسی ساگا اسکول بورڈ کے ٹرسٹی، کونسیل سکولیرے ویامونڈے (Conseil scolaire Viamonde) کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں قبول کر رہا ہے۔

نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکیج آن لائن طور پر اور برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔ فارم 18 اگست 2022 تک باقاعدہ دفتری اوقات کے دوران بذریعہ ملاقات، ذاتی طور پر (یا ایجنٹ کے ذریعے) جمع کرائے جانے چاہیں۔ اگر آپ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن، جمعہ، اگست 19، 2022 کو اپنے فارم جمع کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امیدواروں کو صرف اس دن پہلے آئیے پہلے پائے کی بنیاد پر خدمات فراہم کی جائیں گی۔ 19 اگست 2022 کو فائل کرنے کے اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکیج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم www.brampton.ca/BramptonVotes پر جائیں۔

فارم بھرتے وقت، فیس (میئر کے لیے \$200.00، دیگر تمام نشستوں کے لیے \$100.00) بصورت نقد رقم، ڈیبٹ، تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندگان کو لازمی طور پر اپنے نام اور قابل قبول پتے کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔ صرف اصل دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک ورژن کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے کسی مہم پر نہ تو کوئی پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی رقم وصول کر سکتا ہے۔

تیسرے فریق کے مشنہرین

کوئی بھی ایسا شخص، کارپوریشن یا ٹریڈ یونین جو کسی امیدوار کی مہم چلانے، حمایت کرنے یا مخالفت کرنے کے لیے کسی براڈ کاسٹ، تحریری، الیکٹرانک یا دیگر ذریعے سے اشتہار بازی کرنا چاہتا ہو، اسے لازمی طور پر سٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا ہو گا۔

رجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکیج آن لائن اور برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔ فارم 21 اکتوبر 2022 تک باقاعدہ دفتری اوقات کے دوران بذریعہ ملاقات، ذاتی طور پر (یا ایجنٹ کے ذریعے) جمع کرائے جانے چاہیں۔ رجسٹریشن کے کاغذات داخل کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکیج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع کرانے کے لیے



اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم www.brampton.ca/BramptonVotes پر جائیں۔

رجسٹریشن داخل کروانے والے شخص کو کاغذات جمع کراتے وقت اصل شناختی دستاویز پیش کرنے کی ضرورت ہو گی۔ کوئی نمائندہ جو کسی کارپوریشن یا ٹریڈ یونین تیسرے فریق کے مشنر کی جانب سے رجسٹر ہونا چاہتا ہو، اسے کارپوریشن یا ٹریڈ یونین کے نامزد اہلکار سے اجازت نامے کا خط فراہم کرنا چاہیے۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ فریق ثالث کا مشنر اپنے رجسٹریشن کے کاغذات داخل کرنے سے پہلے نہ تو کسی مہم پر پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی رقم وصول کر سکتا ہے۔

نامزد امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جائے گی اور یہ www.brampton.ca/BramptonVotes پر دستیاب ہے۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca